

82394-دوماہ کے مسلسل روزے رکھنے کے دوران ماہواری آجائے تو کیا اس سے تسلسل ختم ہو جائیگا؟

سوال

میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جان بوجھ کر عماروزہ توڑنے والی عورت مسلسل دوماہ کے روزے بغیر کسی انقطاع کے کیسے رکھ سکتی ہے؟ اور آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اس عورت کو سات یوم ماہواری آئے تو کیا وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے، اور اس کے فوراً بعد دوبارہ شروع کر دے یا کہ کچھ اور کرنا ہوگا؟

پسندیدہ جواب

اول:

ماہ رمضان کے روزے عظیم فریضہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر درج ذیل فرمان جاری کر کے فرض کیے ہیں:

﴿اے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو﴾۔ البقرة (183).

چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان شخص پر روزے رکھنا فرض ہیں، صرف کسی شرعی عذر مثلاً بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کو بھی روزہ ترک کرینگی اور بعد میں ان سب کو بطور قنناء روزے رکھنا ہونگے۔

اور جس شخص نے بھی رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر روزہ نہ رکھا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھرا، اسے لازماً توبہ کرنا ہوگی، اور کیا وہ اس کے ذمہ اس روزہ کی قنناء لازم ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے:

اگر تو اس نے روزہ کی نیت کی اور پھر دن کے کسی حصہ میں بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا تو اسے روزہ کی قنناء کرنا ہوگی، اور اگر نیت نہ بھی کی تو راجح یہی ہے کہ اس پر قنناء نہیں۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

بغیر کسی شرعی عذر رمضان المبارک میں دن کے وقت روزہ توڑنا اکبر الکبائر میں شامل ہوتا ہے، اس سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ واستغفار کرنی اور اس روزہ کی قنناء میں ایک روزہ رکھنا واجب ہے۔

یعنی اگر وہ روزہ رکھے اور دن کے کسی حصہ میں بغیر کسی عذر کے روزہ کھول لیا تو وہ گنہگار ہے، اور اسے اس روزہ کی قنناء میں روزہ رکھنا ہوگا؛ کیونکہ جب اس نے روزہ شروع کر لیا تو اسے مکمل کرنا لازم ہے، اور جب اس نے وہ روزہ فرض سمجھ کر روزہ رکھا تو نذر کی طرح اس کی قنناء بھی لازم ہوگی۔

لیکن اگر وہ بغیر کسی عذر کے عماروزہ رکھتا ہی نہیں تو اس میں راجح یہی ہے کہ اس کی قنناء لازم نہیں؛ کیونکہ وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سے وہ روزہ قبول ہی نہیں کیا جائیگا۔

کیونکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ:

ہر موقت عبادت جس کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہو جب وہ وقت سے بغیر کسی عذر مؤخر کر دی جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔

اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے"

اور اس لیے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا ظلم و زیادتی ہے، اور ظالم سے قبول نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں﴾۔

اور اس لیے بھی کہ اگر یہی عبادت وقت سے قبل ادا کی جائے یعنی وقت شروع ہونے سے قبل تو بھی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر بغیر کسی عذر کے وقت سے بعد عبادت کی جائے تو قبول نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو بعد میں ادا کرنے سے قبول ہو جاتی ہے "انتہی۔

دیکھیں : مجموع فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین (19) سوال نمبر (45)۔

دوم :

جس نے بھی بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک میں روزہ توڑا اگر تو وہ جماع کر کے روزہ توڑتا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ کے ساتھ ساتھ روزہ کی قضاء بھی ہوگی، کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اگر نہ ملے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اس میں عورت یا مرد کا کوئی فرق نہیں، اگر عورت نے مرد کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ توڑا تو اس پر بھی کفارہ لازم ہے، لیکن اگر اسے مجبور کیا گیا ہو تو پھر عورت پر کفارہ لازم نہیں آتا۔

اور اگر جماع کے علاوہ کسی اور چیز سے روزہ توڑا ہو مثلاً کھاپی کر تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ روزہ توڑنے والے کفارہ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور اس کا جماع پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اور اس لیے کہ اس سے کفارہ واجب کرنے کی نہ تو کوئی نص ہے، اور نہ ہی اجماع پایا جاتا ہے، اور نہ ہی اسے جماع پر قیاس کرنا صحیح ہے "انتہی۔

دیکھیں : المغنی ابن قدامہ (22/3)۔

سوم :

جب عورت پر مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنا واجب ہوں اور وہ روزے رکھنا شروع کر دے پھر اسے ماہواری آجائے تو اس سے اس کے روزوں کا تسلسل نہیں ٹوٹتا بلکہ قائم رہے گا، چنانچہ ماہواری کے ایام میں روزہ نہ رکھے اور پھر ماہواری ختم ہوتے ہی دو ماہ کے روزے مکمل کر لے، کیونکہ حیض تو اللہ تعالیٰ کی جانب آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"اہل علم کا اجماع ہے کہ مسلسل روزے رکھنی والی عورت کو مکمل کرنے سے قبل اگر ماہواری آجائے تو جب وہ ماہواری سے پاک ہوگی ان کی قضاء کرے، اور انہیں روزوں پر بنا کرتے ہوئے (یعنی پہلے روزوں کو شامل کر کے مکمل کرے گی) روزے مکمل کرے گی، کیونکہ دو ماہ میں حیض سے بچنا ممکن نہیں، الا یہ کہ ناامیدی کی بنا پر حیض میں تاخیر ہو، اس میں روزوں کا خاتمہ ہے"

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ (21/8).

اس بنا پر مثلاً اگر کفارہ کے روزے محرم اور صفر کے مہینہ رکھ رہی ہو اور اس کی ہر ماہ میں ماہواری کے سات ایام ہیں تو وہ حیض کے ایام میں روزے نہ رکھے، بلکہ ماہواری ختم ہونے کے فوراً بعد روزہ رکھنا شروع کرے اور حیض والے ایام کے عوض جمادی الاول کے چودہ دنوں کے روزے رکھ لے.

واللہ اعلم.